



سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹی ٹونٹی ٹیم کا اعلان

- کراچی میں موجود قومی ایک روزہ اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں
- احمد شہزاد ، عمر اکمل اور فہیم اشرف کی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شمولیت
- ٹی ٹونٹی میچز 5، 7 اور 9 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے

لاہور، 2 اکتوبر 2019ء:

قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے سری لنکا کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ 3 ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سیریز 5 سے 9 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری رہے گی۔

ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے کراچی میں موجود قومی ایک روزہ ٹیم میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ امام الحق، عابد علی اور محمد رضوان کی جگہ احمد شہزاد ، عمر اکمل اور فہیم اشرف کو قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

احمد شہزاد نے گذشتہ سال جون میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف سیریز میں آخری بار قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی تھی۔ مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل نے 27 ستمبر 2016 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔ آراؤنڈر فہیم اشرف رواں سال مئی میں انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ میں قومی ٹیم کا حصہ تھے۔

سری لنکا کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں بائیں ہاتھ کی انجری کا شکار ہونے والے امام الحق کو ٹی ٹونٹی سیریز میں شامل نہیں کیا گیا۔

16 رکنی قومی ایک روزہ کرکٹ ٹیم:

سرفراز احمد (کپتان) (سندھ)، بابر اعظم (نائب کپتان) (سنٹرل پنجاب)، احمد شہزاد (سنٹرل پنجاب)، آصف علی (ناردرن)، فخر زمان (خیبر پختونخوا)، حارث سہیل (بلوچستان)،

محمد حسنین (سندھ)، افتخار احمد (خیبرپختونخوا)، عماد وسیم (ناردرن)، عمر اکمل (سنٹرل پنجاب)، محمد عامر (ناردرن)، محمد نواز (ناردرن)، فہیم اشرف (سنٹرل پنجاب)، شاداب خان (ناردرن)، عثمان خان شنواری (خیبرپختونخوا) اور وہاب ریاض (سدرن پنجاب)۔

شیڈول:

5 اکتوبر: پہلا ٹی ٹونٹی میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور
7 اکتوبر: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور
9 اکتوبر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk

@therealpcb

@PakistanCricketBoard

@PakistanCricketOfficial

@therealpcb

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium

Ferozpur Road, Lahore

Pakistan, PO Box 54000

T: +92 42 3571 7231-4

